

آٹزم - فسانے اور حقائق

’فسانے‘ کے نیچے دیے گئے بیانات آٹزم سے دوچار گھرانوں کے افراد کے اپنے بیانات ہیں۔
’حقائق‘ کالم میں درج بیانات کی بنیاد سائنس اور طبی تحقیق پر ہے۔

| حقائق | فسانے |
|--|---|
| بدبختی کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا لیکن آٹزم میں مبتلا بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے | ”آٹزم بدبختی ہے“ |
| والدین اپنے بچے کے آٹزم کا سبب نہیں ہوتے | ”آٹزم آپکا اپنا قصور ہے“ |
| آٹزم نشوونما سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہے جس میں تعلیم اور تھراپی کے ذریعے بہتری لائی جا سکتی ہے | ”آٹزم ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے“ |
| آٹزم ایک ذاتی اور انفرادی کیفیت ہے | ”آٹزم ایک وبا ہے“ |
| کسی کو آٹزم نہیں ”لگ سکتا“ | ”آٹزم چھوتی بیماری ہے“ |
| سزا اس شخص کو ملتی ہے جس کا قصور ہو، نہ کہ ایک معصوم ننھے بچے کو | ”آٹزم آپکے گناہوں کی سزا ہے“ |
| آٹزم میں مبتلا کچھ بچوں کو ذہنی معذوری ہوتی ہے؛ کچھ اوسط سطح پر ہوتے ہیں اور کچھ معاشرے میں عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں | ”آٹزم کا مطلب ہے ذہنی پسماندگی“ |
| آٹزم بچوں میں تب بھی پایا جاتا ہے جب وہ بالکل ٹی وی نہ دیکھتے ہوں | ”آٹزم زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے“ |
| تحقیقی مطالعات سے آٹزم اور ویکسینیشنز کے درمیان کوئی تعلق نہیں پایا گیا | ”ویکسینیشنز آٹزم کا سبب ہیں“ |
| آٹزم ہر سطح کی آمدنی رکھنے والوں اور ہر تہذیب میں پایا جاتا ہے | ”آٹزم صرف ایک مخصوص طبقے کے لوگوں میں پایا جاتا ہے“ |
| آٹزم کا تعلق بچے کی جینز سے ہوتا ہے اور جینز اسے ماں اور باپ دونوں سے ملتی ہیں | ”آٹزم میں ماں کا قصور ہوتا ہے“ |